

95056 - کفریہ ممالک میں رہنے والے مسلمان شخص سے شادی کرنا

سوال

میری تئیس برس ہے، جس ملک میں رہتی ہوں وہاں کے کئی افراد نے میرا رشتہ طلب کیا ہے لیکن وہ سب رشتے میرے لیے مناسب نہ تھے، لیکن اب میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے جو میرا ہم وطن تو ہے لیکن اس نے یورپ کنٹری کی شہریت حاصل کر سکی ہے اور سویڈن میں رہتا ہے، لیکن وہ نوجوان دین کا التزام کرنے والا اور صاحب اخلاق بھی ہے، اور ایک قابل احترام خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایسی بیوی چاہتا ہے جو اس کے ساتھ دعوت الی اللہ میں تعاون کرنے والی ہو، آپ اس سلسلہ میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا میں یہ رشتہ قبول کر لوں یا انکار کر دوں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اگر آنے والا رشتہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے پسند ہے اور وہ اس کا سویڈن میں رہنا بھی شرعی اعتبار سے ہے، یا پھر وہ آپ کے ملک میں رہنے کا عزم رکھتا ہے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارہ کر کے اسے قبول کر لیں۔

کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جب تم سے کوئی ایسا شخص رشتہ طلب کرے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو تم اس کی شادی کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت عریض فساد بپا ہو جائیگا "

سنن ترمذی حدیث نمبر (1084) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

اور اگر یہ نوجوان وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے رہ رہا ہے اور وہ ایسی بیوی چاہتا ہے جو دعوت الی اللہ میں اس کی ممد و معاون بنے تو یہ سب سے افضل اعمال میں شامل ہوتا ہے۔

اور یہی انبیاء علیہم السلام کا کام اور پیشہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور اس شخص سے زیادہ بہتر اور اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اور نیک و صالح اعمال کرتا اور کہتا ہے یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں فصلت (33)۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ آپ دونوں کو ہر قسم خیر و بھلائی کی توفیق نصیب فرمائے۔



كفريه ممالك ميں رہائش ركهنے كى شروط معلوم كرنے كے ليے آپ سوال نمبر (14235) اور (27211) كے جوابات كا مطالعہ كريں.

والله اعلم .